

برائے فوری اجراء

## برامپٹن کے رہائشیوں کے بہترین مفاد میں متعین کردہ کونسل کی مدت کی ترجیحات پر پورا اترنے کے لیے برامپٹن کا 2020 کا مجوزہ بجٹ

برامپٹن، آن (4 فروری 2020) – سٹی آف برامپٹن کا مجوزہ بجٹ اب [آن لائن](#) طور پر دستیاب ہے۔ مجوزہ 2020 بجٹ میں کونسل کی مدت کی ترجیحات کو فوقیت دی گئی ہے جس کے تحت شہر کو بہتر طور پر چلانا، سر سبز بنانا، ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر بنانا، مواقع پیدا کرنا اور تمام کمیونٹیز کو ایک گلدستے میں جڑ دینے جیسی ترجیحات شامل ہیں۔ بجٹ پر تبادلہ خیال کا عمل مورخہ 18 فروری کو دن 1 بجے شروع ہوگا جبکہ بجٹ کی حتمی منظوری 26 فروری کی شام 7 بجے دی جائے گی۔

بجٹ کمیٹی کی میٹنگز کی [کلیدی تاریخوں](#)، [بجٹ کی شہ سرخیوں](#) اور [بجٹ کی مکمل تجاویز](#) کی ایک مکمل فہرست سٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ مجوزہ 2020 بجٹ کے حوالے سے سٹی عوامی رائے اور فیڈبیک کو خوش آمدید کہتا ہے۔

سٹی کی جانب سے بجٹ کمیٹی کو بجٹ 2019 کے مقابلے میں 2020 کے بجٹ میں خالص 1.2% اضافہ کی بنیادی تجویز دی گئی ہے۔ اگر منظوری ہو جاتی ہے، تو 2020 کے بجٹ کی آمدن بڑھانے کے لیے برامپٹن میں پراپرٹی ٹیکس میں 0.5% اضافہ یا فی گھرانہ اوسطاً \$27 کا اضافہ ہو جائے گا۔

ٹیکس دہندگان کے پراپرٹی ٹیکس بل میں کل اضافہ 1.8% ہو گا یا فی گھرانے کے لیے اوسطاً \$91 کا اضافہ ہو گا۔ یہ ایک مشترکہ مجموعی اضافہ ہو گا، بشمول سٹی آف برامپٹن کا 0.5% اضافہ، ریجن آف پیل اور ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کا اضافہ۔

بجٹ پر تبادلہ خیال کے دوران، کمیٹی اضافی کارکردگیوں یا سرمایہ کاری کے منظرناموں کا جائزہ بھی لے سکتی ہے۔

### 2020 بجٹ تجاویز کی شہ سرخیاں

- 120 نئی بسوں کی خریداری کے لیے تین سال کے دوران \$136 ملین: بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 88 بسیں جبکہ پرانی بسوں کی جگہ 32 عدد نئی بسوں کی خریداری
- شہر کی سڑکوں اور نقل و حمل کے فعال راستوں کی تجدید کے لیے \$41 ملین تاکہ لوگوں کو نقل و حرکت کے لیے محفوظ راستے میسر ہوں، جو گرین سٹی ہونے کے ہمارے عزم کی عکاسی کرتا ہے
- سپورٹس فیلڈز، ٹریلز اور مقامی پارکس میں کھیل کے میدانوں کو بہتر بنانے کے لیے تین سال کے دوران \$9.8 کی رقم
- شہر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی سیف زونز میں فوٹو راڈار کی تنصیب کے لیے تین سال کے دوران \$650,000 کی رقم
- توانائی کے زیادہ مؤثر استعمال کے لیے سٹریٹ لائٹس میں LED لائٹس کی تنصیب کے لیے \$9 ملین کی رقم
- کوئین اسٹریٹ ریپڈ ٹرانزٹ پرہلیمینری ڈیزائن کے لیے تین سال کے دوران \$8 ملین کی رقم
- علاقائی رابطوں میں بہتری لانے کے لیے ہورونٹیرویو مین سٹریٹ LRT کے لیے تین سال کے دوران \$2.9 ملین کی رقم
- سینچری گارڈنز اور ساؤتھ فلچر ری کریئشن سنٹرز میں دو نئے یوتھ سنٹرز بنانے کے لیے \$2 ملین کی رقم
- ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ریٹرنس انوویشن زون کے قیام کے لیے پانچ سال کے دوران \$5 ملین کی رقم
- آتش زدگی پر بہتر طور پر قابو پانے کے لیے آگ بجھانے کے آلات اور برامپٹن فائر ٹرکس کی تجدید کے لیے تین سال کے دوران \$9.8 کی رقم

### اپنی رائے دیں

سٹی اپنے رہائشیوں، کاروباری اداروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو مجوزہ بجٹ پر نظرثانی کرنے اور درج ذیل میں سے کسی بھی طریقے سے اپنی آراء فراہم کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

- ایک ای میل بھیجیں: کوئی سوال پوچھنا ہو یا کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہوں، تو [budget@brampton.ca](mailto:budget@brampton.ca) پر ای میل کریں۔
- فون اٹھائیں: اپنی رائے دینے کے لیے 311 پر کال کریں۔
- ٹیلیفون ٹاؤن ہال میں شرکت کریں: مورخہ 18 فروری کو شام 7 سے 8 بجے تک ٹیلیفون ٹاؤن ہال میں شرکت کریں، جس میں ایک بے ترتیب طریقے سے منتخب شدہ کچھ فون نمبرز کو کال کی جائے گی۔ کال لسٹ میں اپنا نمبر شامل کرنے کے لیے، 17 فروری تک [سٹی کی ویب سائٹ پر سائن اپ کریں](#)۔
- ذاتی طور پر نمائندگی کرنا: بجٹ کمیٹی یا بجٹ کی منظوری کی کونسل کی میٹنگ میں شرکت اور اپنی رائے دینے کے لیے [نمائندگی کی ایک درخواست جمع کروائیں](#)۔ نمائندگی کے فارم سٹی ہال، 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ ( City's Clerk's Office at City Hall, 2 Wellington Street West ) میں واقع کلرک کے دفتر میں جا کر بھی مکمل کیے جا سکتے ہیں۔
- میٹنگ میں شرکت کرنا: سٹی ہال میں بجٹ کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کریں اور بجٹ کمیٹی کے اجلاس کے اختتام پر منعقد کی جانے والی عوامی سوالات و جوابات کی نشست کے دوران اس دن کے ایجنڈے سے متعلق سوالات پوچھیں۔

### اقتباسات

"برامپٹن کے 2020 کے مجوزہ بجٹ کو کونسل کی مدت کی ترجیحات کے ذریعے رہنمائی فراہم کی گئی ہے اور اس میں اعلیٰ معیار کے پروگراموں اور خدمات کی فراہمی، ترقی کے مواقع کو بروئے کار لانے اور قومی و عالمی سطح کے رجحانات کے مطابق تیار اور ذمہ دار رہنے پر توجہ دی گئی ہے۔ افعالی کارکردگیوں اور محصولات میں اضافے نے بجٹ کمیٹی میں جانے والے اس مسودے کے منظر نامے میں پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کو معقول حد تک رکھا گیا ہے۔ سٹی بجٹ کی منظوری سے پہلے بجٹ پر کھلی اور شفاف بحث منعقد کروانے کے لیے پرعزم ہے اور اپنے شہر کو بہتر بنانے کے اس اہم عمل میں برامپٹن کے رہائشیوں کی آراء اور تبصروں کا خیرمقدم کیا جاتا ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر

"بجٹ کی تجاویز میں سٹی آف برامپٹن کی بڑھتی آبادی کی ضروریات کو متوازن کرنے اور اپنے رہائشیوں اور کاروباروں کی جانب سے توقع کی جانے والی عمدہ خدمات کی فراہمی کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے، جن کا حصول انتہائی مؤثر طریقے سے اور مناسب خرچ میں متوقع ہے۔ انفراسٹرکچر اور عوامی نقل و حرکت کے شعبوں میں مسلسل سرمایہ کاری سے ہمارے اثاثوں کی مرمت اور متبادل کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کرنے اور مستقبل میں ہمارے ٹرانزٹ نیٹ ورک کی جاری توسیع کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔"

- ڈیوڈ سٹن، خزانچی

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)